

Joint Press Release on First Meeting of India-Maldives Joint Working Group on Counter Terrorism, Countering Violent Extremism and De-Radicalisation

April 08, 2021

انسداد دہشت گردی، پرتشدد انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے خلاف بھارت- مالدیپ کے ما بین مشترکہ ورکنگ گروپ کے پہلے اجلاس کے حوالے سے مشترکہ پریس ریلیز

08 اپریل، 2021

بھارت اور مالدیپ کے مابین انسداد دہشت گردی، پرتشدد انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے خلاف مشترکہ ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس 8 اپریل 2021 کو نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ ہندوستانی فریق کی قیادت وزارت خارجہ میں سکرپٹری (مغرب) جناب وکاس سواروپ اور مالدیپ کے فریق کی قیادت خارجہ سکرپٹری جناب عبد الغفور محمد نے کی۔ یہ ملاقات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں منعقد ہوئی، جو ہندوستان اور مالدیپ کے مابین وقت آزمودہ اور اچھے دوستانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ابراہیم محمد صالح کی سربراہی میں ہمارے دوطرفہ تعلقات کے ذریعے حاصل کردہ توانائی، چابت اور درجے کی علامت ہے۔

ہندوستان اور مالدیپ نے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی سمیت دہشت گردی کے تمام اشکال اور مظاہر کی شدید مذمت کی، اور جامع اور پائیدار انداز میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقین نے اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی لگانے کے لئے دہشت گرد تنظیموں کے جانب سے لاحق خطرات کا جائزہ لیا، اور دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام ممالک کو فوری، مستقل، قابل تصدیق اور ناقابل واپسی اقدام اٹھانے کی اشد ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کے زیر اقتدار کوئی بھی علاقہ دوسروں پر دہشت گرد حملوں کے لئے استعمال نہ کیا جائے اور ایسے حملوں کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔

جون 2019 میں وزیر اعظم مودی کے مالدیپ کے ریاستی دورے کے دوران جاری مشترکہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے، دونوں فریقین نے اس خطرناک خطرے کو تسلیم کیا جو کہ دہشت گردی، پرتشدد انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو لاحق ہے۔ ہندوستان نے صدر صالح کی حکومت کی طرف سے اس طرح کے خطرات سے نمٹنے اور مالدیپ کے ذریعہ اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات اٹھانے کی تعریف کی۔

دونوں فریقین نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں بنیاد پرستی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے، دہشت گردی کی مالی اعانت سے مقابلہ کرنے، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے لئے انٹرنیٹ کے استحصال کو روکنے، معلومات کا تبادلہ کرنے، صلاحیتوں کو بڑھانے اور پولیس، سیکیورٹی فورسز، کسٹم، امیگریشن اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کے مابین ادارہ جاتی رابطے قائم کرنے سمیت تعاون کے مختلف شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مزید یہ کہ دونوں فریقین نے منشیات اسمگلنگ کے خلاف دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات چیت میں دہشت گردی، بنیاد پرستی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لئے درپیش چیلنجوں تبادلہ خیال ہوا۔

دونوں فریقین نے تعاون کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا جس میں سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مالدیپ کی دیگر متعلقہ ایجنسیوں کے لئے تعاون اور صلاحیت سازی کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کے خاتمے، پرتشدد انتہا پسندی

كى روك تهام اور انكا مقابله كرنه كه شعبلول مل بابلل تلعاون اور بهلرلن طرلقله كار ٱر تبادلل خلال شامل تهال. دونول فرلقلن نه كئلر الهلل فورم مل تلعاون ٱر بهل تبادلل خلال كلال.

مالءلل كا وفء نلء للل ملل اٱنه قلال كه دوران نلشنل سلكلورلل گارء اور بلورو آف ٱوللس رلسرل ابلء ڈولللمنء كل تربللل سلوللال كا بهل دوره كرل كا.

نلء للل

08 اٱرلل، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.